

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن نے اونٹیریو کی ایسی پہلی میونسپلٹی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے جو بجلی پر چلنے والا فائر ٹرک استعمال کرے گی

برامپٹن، آن (16 جون 2021) – آج، برامپٹن سٹی کونسل نے ایک فرنٹ لائن پمپ کو Rosenbauer RT، ایک مکمل طور پر بجلی سے چلنے والے فائر ٹرک سے تبدیل کرنے کے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔

برامپٹن ایک سرسبز شہر ہے، اور استحکام میں بہتری لانے اور ماحولیاتی جدت کا رہنما بننے کے لیے پر عزم ہے۔ Rosenbauer RT مارکیٹ میں دستیاب ایک مکمل بجلی سے چلنے والا فائر ٹرک ہے جو آگ بجھانے کے موجودہ معیارات کو پورا کر سکتا ہے۔ برامپٹن نے اونٹاریو میں فرنٹ لائن ایمرجنسی میں رد عمل دینے والی بجلی سے چلنے والی گاڑی استعمال کرنے والی پہلی میونسپلٹی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے، جس سے وہ دنیا کے دیگر عالمی شہرت یافتہ شہروں جیسے کہ برلن، ایمسٹرڈیم، دبئی، لاس اینجلس اور وینکوور کے ساتھ شامل ہو گئی ہے۔

ٹرک کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے برامپٹن کی آگ بجھانے والی گاڑیوں کے گروہ سے ایمرجنسیز میں رد عمل دینے کے دوران کوئی مضر صحت اخراج نہیں ہو گا، نہ صرف سفر کے دوران، بلکہ سائٹ پر ہونے کے دوران بھی۔ سائٹ پر کینسر کا سبب بننے والے مواد کے اخراج میں کمی سے ان سائٹ منصوبوں میں اخراج کا خاتمہ ماحول اور آگ بجھانے والے عملے دونوں کی صحت و صفائی کا تحفظ کرتا ہے۔

مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی گاڑی کی اضافی خصوصیات میں گاڑی کی اونچائیوں کو زیادہ اور کم کرنے کی صلاحیت بھی شامل ہے، جیسا کہ مسافر بسوں میں ہوتا ہے، جس سے گاڑی میں داخل ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس خصوصیت سے سائٹ پر ہونے کے دوران سازو سامان تک رسائی کے لیے آگ بجھانے والے عملے کی پہنچنے والی اونچائی میں بھی کمی آتی ہے۔ گاڑی کی اونچائی کو 6.8 انچ نیچے اور 18.5 انچ کی اونچائی تک اوپر کیا جا سکتا ہے، جس سے سیلاب میں رد عمل دینے کی صورت میں انجن میں پانی داخل ہونے سے بچاؤ ممکن ہو سکے گا۔ نیا فائر ٹرک ذیلی ڈویژنز میں تنگ مقامات اور تنگ سڑکوں پر گاڑیوں کے گروہ کو زیادہ مؤثر طور پر راہ دکھانے میں مدد دے گا، اور مشینی ٹیکنالوجیز کو استعمال میں لانے گا، جس سے آگ بجھانے والے عملے کی صحت اور تحفظ میں بہتری آئے گی۔

بجلی سے چلنے والے نئے فائر ٹرک کو نئے، جدید ترین برامپٹن فائر کیمپس میں رکھنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جو کہ فی الوقت زیر تعمیر ہے۔ سٹی کو یہ ٹرک 2202 کے اواخر میں موصول ہو جائے گا۔

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، www.bramptonfire.com ملاحظہ کریں۔ سٹی کی کونسل کی مدت کی ترجیحات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے: برامپٹن ایک سرسبز شہر ہے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن میں، ہم ایک بڑھتی ہوئی مستحکم کمیونٹی کی تعمیر پر وہ سب کام کر رہے ہیں جو کہ ہم ایک سرسبز شہر کے طور پر کر سکتے ہیں۔ میں برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو ان کے اونٹاریو کے پہلے مکمل طور پر بجلی سے چلنے والے فائر ٹرک کے حصول کی کوشش پر مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ برامپٹن ایک عالمی شہرت یافتہ شہر ہے، اور ہمیں دوسروں کے ساتھ شامل ہونے پر فخر ہے جو ہماری کمیونٹیز کو محفوظ رکھتے ہوئے آب و ہوا کی تبدیلی کو اپنی پرانی حالت میں واپس لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن ایک جدید شہر ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے استحکام کو بہتر بنانے اور اپنے رہائشیوں اور عملے کے تحفظ کے نئے طریقوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مکمل طور پر بجلی سے چلنے والا نیا فائر ٹرک خطرے کو کم کرے گا اور ہماری پرعزم فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم

کی صحت اور تحفظ کو بہتر بنائے گا، اور ہماری کمیونٹیز میں مضر صحت مواد کے اخراج کو کم کرے گا۔ ہمیں گرین ٹیکنالوجی میں سبقت لے جانے پر ہمیں برامپٹن فائر پر فخر ہے۔"

- روبنا سینتوس، ریجنل کونسلر، وارڈ 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم کی جانب سے، میں Rosenbauer RT، ایک مکمل طور پر بجلی سے چلنے والے فائر ٹرک پر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ٹرک میں بہت سی دلچسپ خصوصیات موجود ہوں گی، مثلاً جانے وقوعہ پر کینسر کا سبب بننے والے مواد کو کم کرنے سے لے کر، ایگروٹومک ٹیکنالوجیز میں جدید ترین ہونے تک، اور ہمیں ماحولیاتی استحکام میں ایک رہنما بننے کے قابل ہونے میں مدد دے گا۔ ہم اپنی کمیونٹی کا تحفظ کرنے میں اسے استعمال کرنے کے منتظر ہیں۔"

- بل بوئیس، چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن میں موجود عملہ ہماری کارروائیوں میں استحکام کو بہتر بنانے اور کونسل کی مدت کی ترجیحات میں جدت لانے کے لیے پر عزم ہے: برامپٹن ایک سرسبز شہر ہے۔ ایک مکمل طور پر بجلی سے چلنے والے نئے فائر ٹرک کی تنصیب سے، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اخراج میں کمی لائے گی اور دنیا کے دیگر عالمی شہرت یافتہ شہروں کے ساتھ ماحولیاتی جدت میں بطور رہنما شامل ہو جائے گی۔"

ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca